

255 - 2017

English Precise & Composition

20

Translation

Date

Q7

To identify our hidden flaws. Opine about us
know what our enemies Our friends appreciate
Usually, our friends praise us to please us. Even they try to ignore it
truthfully, either they don't acknowledge our flaws or they try to hide it to keep our heart. Always searching for our flaws
Else they try to Always magnifies worsen it. Compared to them our enemies keep Plz work on ur translation and practice more us by exposing our mistakes. Though he expands it of enmity, but it has some reality. A friend always Attempt in idiomatic and proverbial manner plz increases his friends virtues whereas enemy enlarges his mistakes. Therefore, we should be more thankful to our foe because he make us aware of our bad deeds. In this view, a foe is better than a friend.

Q8: Pair Of Words
Sentences.

Wrath (intense anger):

Her plan to meet her friends without her parent's permission resulted in wrath of her parents.

Wroth (angry):

I am extremely wroth with my friend as she hadn't invited me on her wedding.

Shajeeel

Date _____ 20 _____

2. Veracity: (Accuracy / Truthfulness)

The judge has doubt on veracity of lawyer of intruder.

Voracity (Avarice):

The shark is known for its streamlining.

3. Subtler: (elusive, knotty)

The development projects across the country needs subtler approach.

Butler: (a person who followed army or sold provisions to the soldiers.)

Butlers, sold different materials to soldiers during war.

4. Retenue: (Restrained or self-control)

The peoples of my village have retenue over their emotions.

Good villagers

Retinue: (Entourage, group of advisors)

Political leaders have a number of guides by retinue.

5. Minute: (Extremely small)

Virus, bacteria and ~~are~~ pathogens ~~are~~ are so minute to be seen with naked eye.

4. Minuet: (A slow elegant dance)
The minuet became popular in 17th Century.

6. Furor: (Great anger or excitement shown by a number of people).
Imprisonment of one of the PM of Pakistan caused a furor among Pakistanis.

Furore: (Public Uproar)
Higher electricity bills causes furore in AJK (Azad - Jammu Kashmir) in May 2024

7. Dinghy: (A small boat).
We visited Manora beach in a dinghy.

Dingy: (Dark & dirty, gloomy, dull)
I visited a restaurant's kitchen which was dingy & dingy.

8. Bony: (Very thin)
Children across South Africa are bony because of malnutrition.

Bonny: (Very pretty, attractive)

Date _____ 20 _____

I met a bonny & well disciplined lady in a concert.

Laziness: a blessing in disguise

Q2: Precis (2017)

Title: ~~Laziness Begets Wickedness~~

Every evil deeds in the world is brought by a person who is continuously putting his efforts not by those who is being indolent. ~~According to us, evil is the most serious vice which disdains laziness. It does not waste time.~~ In this view, the world is perplexed because of evil practices of people by their indolence.

There was a time in past, when people because sluggish by wanted to do no work at all. But philosophy of struggle pushed them to do work. If statesman of a country go for vacation then they can still maintain their image. Likewise, if politicians of Europe practice idleness that would also intervene in their governance.

and across the world. Some religious scholars
to their followers who keep blaming others
of evil practices. They should change their
perspectives.

Precis depends upon your understanding of
the passage

Read the passage carefully and attempt again
plz

Try to reflect original ideas in your own words

Q. 7.

Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expression.

(10)

اپنے پوشیدہ عیبوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اول ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں لگتے یا پھر ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یا پھر ان سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ ہر خلاف اس کے ہمارا دشمن ہم کو خوب بٹولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے، گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتا ہے۔ مگر اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو دشمن دوست سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔